

کیا دولہے کے جسم پر ہلدی ملنا جائز ہے؟

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایشیاء کے کچھ علاقوں یا قوموں میں یہ رسم ہے کہ دولہے کو مہندی کی رات ہلدی ملی جاتی ہے کیا یہ جائز ہے؟

سائل: ایک بہن فرام انگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

اگر دولہا خود کسی طبی فائدے کے تحت اپنے جسم پر ہلدی ملتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا مرد حضرات گھٹنے سے لے کر ناف تک کے حصہ کے علاوہ دولہے کے جسم پر ہلدی لگاتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے لیکن اگر غیر محرم عورتیں دولہے کے جسم پر ہلدی ملتی ہیں تو بلاشبہ ناجائز و گناہ بلکہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، ان سے باتیں کرنا اور عورتوں کا دولہے کے جسم کو چھونا پایا جاتا ہے جسے حدیث میں زنا سے تعبیر کیا گیا ہے۔

جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں آیا: **فَالْعَيْنَانِ زَنَاهُمَا النَّظْرُ، وَالْأُذُنَانِ زَنَاهُمَا**

**الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ** "آنکھوں کا زنا (حرام) دیکھنا کانوں کا زنا حرام سننا اور زبان کا زنا حرام بولنا اور ہاتھ کا زنا حرام چھونا، پکڑنا ہے۔"

(الصحيح المسلم باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره رقم 2657)

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Date: 03-09-2017

## THE RULING ON APPLYING HALDI ON THE BODY OF A GROOM

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

### QUESTION:

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the following issue, is the Asian custom of rubbing haldi (turmeric) over the groom's body on the "Mehndi night" permissible?

Questioner: A sister from UK

### ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

If the groom himself rubs turmeric over his body for some health benefits then it is totally permissible. If other men rub turmeric over the groom's body, leaving out the parts from knees up to the navel, then this too, is permissible but if ghayr-mahram women rub turmeric over the groom's body then without doubt it is unlawful and sin, and rather a collection of sins. This involves looking at ghayr-mahram women, chatting with them and them touching the groom's body which, according to a Hadith, is considered as adultery; as it is mentioned in the Hadith of Muslim Shareef:

فَالْعَيْنَانِ زَنَاهُمَا النَّظْرُ، وَالْأُذُنَانِ زَنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زَنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زَنَاهَا الْبَطْشُ

Adultery of the eyes is seeing (what is forbidden), adultery of the ears is listening (to what is forbidden), adultery of the tongue is speaking (what is forbidden) and adultery of the hand is touching/holding (what is forbidden). [Sahih Muslim, Hadeeth No. 2657]

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم  
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

**Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri**

Translated by Musjidul Haq Research Department ( [www.musjidulhaq.com](http://www.musjidulhaq.com) )